



# مسلمان خواتین کے دینی فرائض

ڈاکٹر اسرار احمد

بانی تنظیم اسلامی

صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

مکتبہ خدام القرآن لاہور

36۔ کناڈل ٹاؤن لاہور فون: 03-5869501

## عرض ناشر

زیر نظر کتابچہ اصلاً محترم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک خطاب پر مشتمل ہے جو انہوں نے ۲ جون ۱۹۹۱ء کو قرآن اکیڈمی لاہور میں حلقہ خواتین تنظیم اسلامی کے زیر اہتمام خواتین کے ایک اجتماع عام میں ارشاد فرمایا تھا۔ قبل ازیں مسلمان خواتین کے حوالے سے موصوف کی صرف ایک تالیف ”اسلام میں عورت کا مقام“ مکتبہ انجمن کے تحت شائع ہوئی تھی۔ مذکورہ بالا خطاب میں چونکہ محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے مسلمان خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے موضوع کا جامع انداز میں احاطہ کیا تھا لہذا مناسب معلوم ہوا کہ اسے بھی کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے۔ اس کتابچے کا پہلا ایڈیشن مئی ۱۹۹۳ء میں شائع ہوا۔ پچھلے سال تک اس کے پانچ ایڈیشن شائع ہو چکے تھے۔ اب سے کوئی آٹھ ماہ قبل اظہاراً اکتوبر ۱۹۹۶ء میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد نے کراچی اور ملتان میں خواتین کے اجتماعات میں اسی موضوع پر دوبارہ اظہار خیال فرمایا تو خواتین کی دینی ذمہ داریوں کو ایک نئے اور قدرے مختلف انداز میں پیش کیا اور اس موضوع کے بعض تشنگ گوشوں کی مزید وضاحت بھی کی۔ چنانچہ ضرورت محسوس ہوئی کہ زیر نظر کتابچے کو بھی آئندہ مناسب حک و اضافہ کے ساتھ شائع کیا جائے۔ بھرحمہ اللہ کہ زیر نظر ایڈیشن میں اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے طباعت سے قبل اس میں ضروری ترامیم و اضافے کر دیئے گئے ہیں اور یوں اس کتابچے کا نظر ثانی شدہ ایڈیشن آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۲۰ جون ۱۹۹۷ء

نام کتابچہ	_____	_____	_____
طبع اول تا ہفتم (مئی ۱۹۹۲ء تا اکتوبر ۲۰۰۴ء)	_____	12,700	_____
طبع ہفتم (اگست ۲۰۰۵ء)	_____	2200	_____
ناشر	_____	_____	_____
مقام اشاعت	_____	_____	_____
فون: 5869501-03	_____	_____	_____
مطبع	_____	_____	_____
قیمت	_____	_____	_____

# مسلمان خواتین کے دینی فرائض

نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ..... أما بعد:

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْقَائِمَاتِ  
وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ  
فُرُوجَهُمُ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ ۗ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (الاحزاب) ..... صدق اللہ العظیم

## دینی فرائض کے جامع تصور کی اہمیت

دینی فرائض کے جامع تصور کی اہمیت یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اور میرے دین کا مجھ سے کیا مطالبہ ہے تو وہ ان دینی فرائض کی ادائیگی کے قابل نہ ہو سکے گا جو اس پر عائد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر فرائض دینی کے بارے میں ہمارا تصور ناقص یا نامکمل ہو، یعنی بعض فرائض تو معلوم ہوں اور انہیں ہم ادا بھی کر رہے ہوں، لیکن بعض فرائض کا ہمیں علم ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے۔ اس طرح اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اگرچہ اپنی جگہ ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے تو اپنے تمام فرائض ادا کئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں ہمیں بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داریاں صرف وہی نہیں تھیں کہ جو تم نے پوری کی ہیں بلکہ مزید بھی تھیں، اور ان کے ضمن میں چونکہ ہمیں

علم ہی حاصل نہیں تھا، لہذا ان سے متعلق ہماری کارگزاری صرف ثابت ہو اور ہم اپنے تمام تر خلوص اور محنت کے باوجود ناکام قرار پائیں۔

اس مسئلے کا ایک دوسرا رخ بھی قابل توجہ ہے، جو خواتین کی ذمہ داریوں کے ضمن میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اور وہ یہ کہ ایک دوسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ذمے خواہ مخواہ ایسی ذمہ داریاں لے لیں جو ہمارے دین نے ہم پر عائد نہ کی ہوں۔ یہ بات بھی اتنی ہی خطرناک، مضر اور نقصان دہ ہے جتنی کہ پہلی بات۔ کیونکہ انسان کا جذبہ بر عمل بسا اوقات حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو وہ غلط رخ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی بہت اہم مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً نیکی کا جذبہ ہی دنیا میں رہبانیت جیسے خلاف فطرت نظام کو وجود میں لانے کا سبب بنا، جس نے بالآخر ایک برائی کی شکل اختیار کر لی اور بہت سے منکرات کو جنم دیا اور اس کے نتائج بہت ہی منفی اور خوفناک ہوئے۔ خود رسول اللہ ﷺ کی حیاتِ طیبہ کا یہ واقعہ بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ تین صحابہ کرام (رضی اللہ عنہم) جن پر عبادت گزاری، زہد اور تقویٰ کا بہت زیادہ غلبہ ہو گیا تھا، انہوں نے ازواجِ مطہراتؓ سے آنحضرت ﷺ کی نقلی عبادات کے متعلق پوچھا کہ آپ رات کو کتنی دیر تک نماز پڑھتے ہیں اور صبح میں کتنے نقلی روزے رکھتے ہیں؟ ازواجِ مطہراتؓ نے انہیں آنحضرتؐ کے نقلی اعمال کی جو کیفیت بتائی وہ انہیں اپنے تصور اور گمان کے مطابق بہت کم نظر آئی۔ تاہم انہوں نے یہ کہہ کر اپنے دل کو تسلی دی کہ کہاں، کہاں ہم اور کہاں رسول اللہ ﷺ! آپؐ تو معصوم ہیں، آپؐ سے تو کسی گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپؐ کی مغفرت کا وعدہ ہو چکا، لہذا آپؐ کے لئے تو اتنی عبادت کفایت کرے گی، لیکن ہمارے لئے یہ کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک صحابیؓ نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھا کروں گا اور اپنی پیٹھ بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے طے کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کسی دن بھی نانغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں گھر گھر ہستی کا لکھیرہ مول نہیں لوں گا اور کبھی شادی نہیں

کروں گا۔ ان کی یہ باتیں رسول اللہ ﷺ تک پہنچیں تو آپؐ نے انہیں طلب فرما کر بڑی ناراضی کا اظہار فرمایا۔ آپؐ نے ارشاد فرمایا: کیا تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ اس کا تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں، لیکن میں کبھی (نظمی) روزہ رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا، اور میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ پس (جان لو کہ) جسے میری سنت پسند نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔“ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

حدیث کے آخری الفاظ: ”فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي“ (پس جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں!) بہت جامع الفاظ ہیں۔ اور ان کی روشنی میں ہمیں زندگی کے ہر موڑ اور ہر گوشے میں یہ دیکھنا چاہئے کہ نبی اکرم ﷺ کا طرز عمل کیا تھا۔ خواتین کی دینی ذمہ داریوں کے ضمن میں ہمیں صحابیاتؓ خصوصاً ازواج مطہراتؓ کی زندگیوں اور ان کے طرز عمل کو پیش نظر رکھنا ہو گا۔ اس لئے کہ خواتین کے لئے آنحضرتؐ کا جو اسوۂ مبارکہ ہے وہ ہم تک ازواج مطہراتؓ ہی کے ذریعے سے پہنچا ہے اور آپؐ نے عام طور پر صحابیات (رضی اللہ عنہن) کو جو بھی ہدایات دیں وہ امت کی خواتین کے لئے مشعل راہ ہیں۔

انسان جب اپنے ذمے خواہ مخواہ اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر ذمہ داری لے لیتا ہے تو اس کے جو مضر اور منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے لئے میں موجودہ دور سے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا میں مختلف جماعتوں اور تحریکوں کے ذریعے اسلامی انقلاب اور اقامتِ دین کے لئے ایک جدوجہد اور سعی و کوشش ہو رہی ہے۔ ایسی تحریکوں کے فکر میں بعض اوقات ایک بنیادی غلطی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کر دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہماری ذمہ

داری یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لئے اپنی بھرپور کوشش اور امکان بھر سہی و جہد کریں اور اس راستے میں اپنے تمام وسائل و ذرائع اور صلاحیتیں اور استعدادات کو صرف کر دیں۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھ لیں گے کہ ہمیں یہ کام بہر طور کر کے رہنا ہے تو اس سے ہمارے طرز عمل میں یہ کجی پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر صحیح راستے سے کام نہیں ہو پارہا تو ہم کسی غلط راستے کو اختیار کر لیں۔ چنانچہ ذمہ داری کا یہ غلط تصور بہت سی تحریکوں کے غلط رخ پر پڑ جانے کا سبب بن گیا ہے۔ لہذا جہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک مسلمان کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان میں سے کوئی ذمہ داری ہمارے علم اور تصور سے خارج نہ رہ جائے، وہیں ہماری یہ کوشش بھی ہونی چاہئے کہ ہم خواہ مخواہ ایسی ذمہ داریاں مول نہ لے لیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد نہ کی ہوں۔

”مسلمان خواتین کے دینی فرائض“ سے متعلق مجھ سے بارہا سوالات کئے گئے ہیں۔ حال ہی میں چند ایسے خطوط بھی موصول ہوئے ہیں جن میں اس موضوع سے متعلق بڑے تفصیلی سوالات کئے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان سوالات کے اس قدر شد و مد سے پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک مخصوص دینی جماعت کے حلقہ خواتین کی سرگرمیاں لوگوں کے سامنے ہیں اور بہت سی خواتین یہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ سرگرمیاں کس حد تک دین کے مطابق اور اس کے مزاج سے ہم آہنگ ہیں۔ اور ان میں کہیں دین کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریوں سے تجاوز تو نہیں ہو رہا؟ میں کوشش کروں گا کہ آج کی گفتگو میں ان تمام سوالات کے جوابات بھی آجائیں۔ اس نشست میں اس موضوع سے متعلق اپنے غور و فکر کا حاصل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی صحیح، معتدل، متوازن اور کتاب و سنت سے موافق ترین اور قریب ترین راستہ ہو، وہ اس کی جانب میری رہنمائی فرمائے اور مجھے اسے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے!!

اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے ضمن میں ایک مسلمان کے پیش نظر ہمیشہ یہ

اصول رہنا چاہئے کہ اللہ نے اس پر کون کون سے ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ جب انسان اپنی اصل ذمہ داری سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری اپنے سر لے لے تو ایک خطرہ یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کہیں وہ اس انجام سے دوچار نہ ہو جائے جس کا ذکر سورۃ النساء میں ”تَوَلَّيْہِ مَا تَوَلَّی“ کے الفاظ میں آیا ہے۔ یعنی اس نے جو راستہ خود ہی اختیار کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اللہ کی تائید اور نصرت شامل حال نہیں رہتی۔ چنانچہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہم پر کیا فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ حقوق اللہ کے ضمن میں کن کن حقوق کی ادائیگی ہمارے ذمہ ہے، اور ہمارے نفس کے وہ حقوق کون سے ہیں جو اللہ نے معین کر دیئے ہیں اور وہ ہمیں ادا کرنا ہیں۔ اللہ نے اس کے لئے جو چیزیں حلال فرمائی ہیں، انہی پر ہمیں اکتفاء کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے طبعی یا جبلی تقاضوں کی پیروی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم حلال سے آگے بڑھ کر حرام میں منہ مار لیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی جس کا جو حق اللہ نے معین کر دیا ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے۔ اگر یہ اصول پیش نظر رہے تو راستہ سیدھا، صاف اور محفوظ رہے گا، لیکن اگر ہم نے اس میں اپنی پسند، ذوق، جذبے، خیالات اور تصورات کو اپنا امام بنا لیا تو پھر ہم خدا انخواستہ ”تَوَلَّیہِ مَا تَوَلَّی“ کا مصداق بن سکتے ہیں اور پھر اس میں شدید اندیشہ ہے کہ آیت کے اگلے الفاظ ”وَنُصَلِّیْہِ جَہَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِیْرًا“ جیسے ہولناک انجام سے دوچار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام بد سے بچائے!

## دینی فرائض کی تین سطحیں۔ سہ منزلہ عمارت کی تشبیہ

فرائض دینی کے جامع تصور کی وضاحت کے لئے ایک سہ منزلہ عمارت کی تشبیہ ذہن میں رکھئے، جس سے واقعتاً اس جامع تصور کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس تشبیہ کی مدد سے میں فرائض دینی کا جامع تصور پہلے عمومی الفاظ میں مردوں کے اعتبار سے بیان کروں گا۔ مجھے اس کے ایک ایک جزو کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ

کماں کماں وہ فرائض نردوں کی مانند خواتین پر بھی جوں کے توں عائد ہوتے ہیں اور کماں کماں ان میں فرق و تفاوت ہے۔ اب آپ ایک ایسی سہ منزلہ عمارت کا نقشہ ذہن میں لائیں جو چار ستونوں پر قائم ہے۔ اس کی پہلی منزل (Ground Floor) پر صرف یہی چار ستون نظر آتے ہیں اور کوئی دیواریں وغیرہ نہیں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان ستونوں کے نیچے ایک بنیاد (Foundation) ہے جس کے اوپر یہ چاروں ستون کھڑے ہیں۔ ایک مناسب بلندی پر اس عمارت کی پہلی چھت موجود ہے، جس سے پہلی منزل مکمل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر دوسری منزل ہے، جہاں پر عمارت تو ان چاروں ستونوں پر ہی قائم ہے مگر دیواریں تعمیر ہو جانے کی وجہ سے ستون نظر نہیں آتے، بلکہ دیواروں کے اوپر دوسری چھت نظر آرہی ہے۔ اسی طرح اس کے اوپر تیسری منزل ہے، جس کی دیواروں پر تیسری چھت نظر آرہی ہے۔ اس عمارت کے نقشے میں ایک ترتیب اور نسبت و تناسب بھی ذہن میں قائم کر لینی چاہئے کہ بلندی کے اعتبار سے ہم اوپر سے نیچے کی طرف آئیں گے۔ یعنی تیسری منزل سب سے بلند ہے، دوسری منزل اس سے کم بلند ہے اور پہلی اس سے بھی کم۔ لیکن اہمیت کے اعتبار سے پہلی منزل سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جب تک پہلی منزل ہی قائم نہ ہو، دوسری منزل تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح دوسری منزل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہی تیسری منزل بن سکتی ہے۔ اس عمارت میں اہم ترین شے اس کی بنیاد (Foundation) ہے، جس پر ساری عمارت کی مضبوطی کا دارومدار ہے۔ بنیاد کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کے حامل وہ چار ستون ہیں جو اس ساری عمارت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر یہ ستون مضبوط ہوں گے تو اوپر کی پوری عمارت بھی مضبوط ہوگی اور اگر یہ کمزور ہوں گے تو اوپر کی ساری عمارت بھی کمزور رہ جائے گی۔

یہ سہ منزلہ عمارت ہمارے دینی فرائض کے جامع تصور کی نقشہ کشی کر رہی ہے۔ اس عمارت کی بنیاد ایمان و یقین ہے، جس کی چنگلی پر عمارت کی مضبوطی کا

دارودار ہے۔ یہ بنیاد جتنی مضبوط اور گہری ہوگی، اوپر کی عمارت اسی قدر مضبوط ہوگی۔ اور اگر یہ بنیاد ہی کمزور اور بودی ہے تو اوپر کی عمارت کے لئے اگرچہ بہت اچھا میٹریل استعمال کیا گیا ہو اور اس کی ظاہری ٹیپ ٹاپ پر بھی بہت توجہ دی گئی ہو، یہ پوری عمارت کمزور رہے گی۔۔۔۔ اس بنیاد پر جو چار ستون قائم ہیں وہ چار اہم عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو عطا فرمائیں۔ یعنی (i) نماز، (ii) روزہ، (iii) زکوٰۃ اور (iv) حج۔۔۔۔ قرآن مجید میں نماز کے بعد ہمیشہ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے: ”وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ“۔ لیکن یہاں میں نے ان کی ترتیب اس اعتبار سے ذرا بدل دی ہے کہ ان میں سے پہلی دو عبادات یعنی نماز اور روزہ تو ہر مسلمان پر فرض ہیں، جبکہ دوسری دو عبادات یعنی زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہیں۔۔۔۔ بہر حال یہ چاروں عبادات ان چار ستونوں کی مانند ہیں جن پر اس عمارت کی چھتیں کھڑی ہیں۔ پہلی چھت کو آپ اسلام، اطاعت، تقویٰ یا عبادت رب کا نام دے سکتے ہیں۔ یعنی اس سطح پر انسان اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دے، صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بنے اور اپنے مقصد تخلیق کو پورا کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“ یعنی ”میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لئے کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں“۔ یہ اطاعت، تقویٰ اور عبادت اپنی بلندی کو پہنچ جائیں تو یہ درجہ احسان ہے۔ یعنی یقین کی یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو۔ تو یہ ہے اس عمارت کی پہلی چھت۔

اس کے بعد دوسری منزل یہ ہے کہ انسان اب اسی چیز کی دوسروں کو دعوت دے، اللہ کے پیغام کو عام کرے، اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کی سعی و جد کرنے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے، فریضہ ”شہادت علی الناس“ کی ادا نیگی پر کمر بستہ ہو، یعنی لوگوں پر حجت قائم کر دی جائے تاکہ لوگ قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ پروردگار ہم تک تو تیرا حکم پہنچایا نہیں، تیری

ہدایت ہم تک کسی نے پہنچائی ہی نہیں۔ یہ دوسری منزل ہے۔

اس عمارت کی تیسری منزل جو بلند ترین ہے، وہ ”اقامت دین“ کی منزل ہے۔ اسی کے لئے ”اسلامی انقلاب“ اور ”تعمیر رب“ کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں۔ یعنی اللہ کے دین کو ایک مکمل نظام زندگی کی حیثیت سے قائم اور رائج کر دیا جائے اور اللہ کی کبریائی کا نظام بالفعل قائم ہو جائے، جیسے حدیث میں فرمایا گیا: **لَتَكُونَنَّ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا** ”تاکہ اللہ ہی کا کلمہ سب سے بلند ہو جائے۔“ تمام جھنڈے نیچے اور اللہ کا جھنڈا سب سے اونچا ہو جائے، تمام باتیں نیچی اور اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہر سطح پر جاری و ساری ہو جائے۔ پارلیمنٹ میں بھی اسی کا حکم چل رہا ہو اور سپریم کورٹ میں بھی اسی کے قانون کے مطابق فیصلے ہو رہے ہوں۔ غرضیکہ پورا نظام اس کے تابع ہو جائے۔ اس مقصد کے لئے محنت، کوشش، جدوجہد، ایثار، مال خرچ کرنا، جان کھپانا، اور اس راہ میں جماد و قتال کے مراحل طے کرنا، یہاں تک کہ اپنی جان کی بازی لگا دینا تیسری اور بلند ترین منزل ہے۔

## مرد و عورت کے دینی فرائض میں فرق و تفاوت

### (۱) پہلی منزل: قریباً یکساں ذمہ داریاں

کوئی بھی مرد یا عورت جو کسی اسلامی تحریک سے وابستہ ہے، اسے ان باتوں سے کماحقہ واقف ہونا چاہئے۔ البتہ ذمہ داریوں کے اعتبار سے مرد اور عورت میں جو فرق و تفاوت ہے وہ میں بیان کئے دیتا ہوں۔ دینی فرائض کے جامع تصور کی جو عمارت ہمارے پیش نظر ہے اس کی پہلی منزل بنیاد کے علاوہ چار ستونوں اور پہلی چھت پر مشتمل ہے۔ بنیاد اگرچہ عمارت شمار نہیں ہوتی، لیکن اہمیت کے اعتبار سے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس پہلی منزل کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سطح پر

عورتوں اور مردوں کے فرائض یکساں ہیں۔ اگر کوئی فرق ہے تو وہ بہت ہی معمولی ہے۔ ایمان ہر مرد و عورت کی نجات کے لئے لازم ہے۔ سورۃ العصر اور سورۃ التین میں ”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ“ کے الفاظ عمومی نوعیت کے ہیں اور ان میں مرد و عورت کی کوئی تفریق نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت ۱۲۴ میں صراحت کے ساتھ فرمادیا گیا کہ جو کوئی بھی عملِ صالح کی روش اختیار کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن بھی ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، گویا ایمان ہر مسلمان مرد و عورت کا فرضِ اولین ہے۔ اس کے بعد نماز ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اسی طرح روزہ بھی ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی جس طرح صاحبِ نصاب مردوں پر فرض ہے اسی طرح صاحبِ نصاب عورتوں پر بھی فرض ہے۔ حج کے لئے زادِ راہ میسر ہو تو یہ بھی مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے، البتہ اس کے لئے عورت کے ساتھ محرم کا ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ کہ اللہ کے تمام احکامات اور اس کی طرف سے عائد کردہ حلال و حرام کی پابندیاں مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے ہیں۔ الغرض اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت اور بنیادی فرائض کی ادائیگی دونوں کے ذمہ ہے۔ یہ تمام چیزیں دونوں میں مشترک ہیں۔

اس ضمن میں مرد و عورت کے فرائض میں جو معمولی سا فرق ہے، اس کے لئے میں آپ کے سامنے نماز کی مثال رکھ رہا ہوں۔ مردوں کے لئے حکم ہے کہ وہ مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کریں، الایہ کہ کوئی عذر ہو، جبکہ خواتین کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ان کے لئے فرمایا گیا ہے کہ عورت کی نماز مسجد کے مقابلے میں اپنے گھر میں افضل ہے۔ گھر میں بھی صحن کے مقابلے میں دالان میں، اور دالان کے مقابلے میں کسی کمرے کے اندر افضل ہے۔ اور کمرے کے اندر بھی اگر کوئی کوٹھڑی ہے (جیسا کہ پہلے زمانے میں بنائی جاتی تھیں) تو اس میں نماز ادا کرنا افضل ترین ہے۔ البتہ جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اشتناء رہا ہے۔ اس لئے کہ اُس زمانے میں تعلیم

و تلقین کے اور ذرائع نہیں تھے۔ نہ کتابیں اور رسالے تھے، نہ ہی کیسٹس تھیں۔ لہذا عیدین اور جمعہ کی نمازوں کے ساتھ جو خطبہ ہے وہی تعلیم کا واحد ذریعہ تھا۔ چنانچہ حضورؐ نے خواتین کو ان خطبات میں شرکت کی ترغیب دی کہ وہ ضرور شرکت کریں، تاکہ وہ تعلیم و تلقین سے محروم نہ رہ جائیں۔ دورِ نبویؐ میں خواتین کو نماز کے لئے اگرچہ مسجد میں آنے کی بھی اجازت تھی، تاہم انہیں ترغیب یہی دی گئی کہ اپنے گھروں میں نماز کی ادائیگی ان کے لئے افضل ہے اور گھر کے مخفی ترین حصہ میں نماز کا اجر و ثواب مزید بڑھ جائے گا۔

بہر حال اس پہلی منزل تک مسلمان مرد و عورت کے فرائض میں کوئی بڑا فرق قطعاً نہیں ہے اور ان ذمہ داریوں میں مسلمان مرد و عورت دونوں یکساں ہیں۔ اس ضمن میں سورۃ الاحزاب کی تین آیات ملاحظہ ہوں۔ ان آیات میں ازواجِ مطہرات سے خطاب فرمایا گیا ہے۔ پہلی آیت کا تعلق ایمان کی تحصیل سے ہے، جو مرد و عورت دونوں کا اولین فرض ہے۔ حقیقی یا شعوری ایمان کا منبع و سرچشمہ صرف اور صرف قرآن حکیم ہے۔ چنانچہ اس کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے، اس پر غور و تدبر، اور اس کی تلاوت سے انسان کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں فرمایا گیا:

﴿وَأذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ،  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾

”اور ذکر کرتی رہا کرو ان چیزوں کا جو تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت میں سے تلاوت کی جا رہی ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک بین اور باخبر ہے۔“

یہ آنحضور ﷺ کی ازواجِ مطہراتؓ سے خطاب ہے، جن کے گھروں میں وحی نازل ہوتی تھی اور حضورؐ وہاں قرآن حکیم کی آیات پڑھ کر سنا تے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ حکمت کا سب سے بڑا خزانہ بھی خود قرآن حکیم ہے۔ مزید برآں

آپؐ احادیث کی صورت میں قرآن حکیم کی وضاحت فرماتے تھے۔ تو احادیث نبویہ بھی دراصل حکمت کے عظیم موتی ہیں۔ گویا ان آیات میں سب سے پہلا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث کا تذکرہ، مذاکرہ، ان کی درس و تدریس، ان کا پڑھنا پڑھانا اور سیکھنا سکھانا ہے۔ اس لئے کہ ایمان کا دار و مدار اسی پر ہے۔ اسی سے یقین کی دولت ملے گی۔ اسی سے ہمارے ایمان میں گہرائی اور گیرائی پیدا ہوگی اور اسی سے ایمان میں استحکام اور پختگی پیدا ہوگی۔ لہذا یہ پہلا کام ہے جو ہر عورت کو کرنا ہے اور ہر ایک کو اسے اپنی اولین ذمہ داری سمجھنا چاہئے۔ ہم اگر اس کی فکر نہیں کریں گے اور دعوت و تبلیغ میں لگ جائیں گے تو یہ بھی درحقیقت ترتیب کے اعتبار سے بات غلط ہو جائے گی۔ ترتیب کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد اور عورت کو اپنا پہلا فرض یہ سمجھنا چاہئے کہ اسے اپنے ایمان کو مستحکم کرنا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ گہرائی پیدا کرنی ہے اور زیادہ سے زیادہ شعور کا عنصر شامل کرنا ہے۔ مرد یا عورت ہونے کے اعتبار سے اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے۔

اب اگلی آیت کی طرف آئیے۔ وہ صفات جو اسلام مسلمان مرد و عورت سے طلب کرتا ہے انہیں قرآن مجید میں عام طور پر مذکر کے صیغوں میں بیان کر دیا جاتا ہے، اس لئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ برسمیل تغلیب ایک بات جب مردوں کے بارے میں بیان کر دی جائے تو عورتوں کے بارے میں وہ از خود بیان ہو جاتی ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک ایک لفظ کو خاص طور پر دہرا کر مردوں اور عورتوں کے لئے علیحدہ علیحدہ لایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ ان اوصاف اور خصوصیات کے اعتبار سے مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْقُنُوتِينَ وَالْقُنُوتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ  
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ

فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ  
 أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۰﴾

”یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں،  
 فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں، راست باز اور راست گو مرد اور  
 راست باز اور راست گو عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی  
 عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ  
 دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور  
 روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں (اور عفت و عصمت) کی حفاظت  
 کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان سب  
 کے لئے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔“

اس آیت مبارکہ میں دس صفات مردوں اور عورتوں کے لئے الگ الگ دہرا کر  
 بیان کی گئی ہیں، جو درج ذیل ہیں :

(۱) الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ : ”مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں۔“  
 یعنی اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینے والے مرد اور عورتیں۔

(۲) الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ : ”اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں۔“  
 یعنی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی نازل کردہ کتابوں، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں  
 اور آخرت پر ایمان رکھنے والے مرد اور عورتیں۔

(۳) الْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ : ”فرماں بردار مرد اور فرماں بردار عورتیں۔“  
 جب کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے دست بستہ جھک کر کھڑا ہوتا تھا کہ جیسے ہی کوئی حکم  
 ملے اسے بجالاتے تو اس کی یہ حالت ”قنوت“ کہلاتی تھی۔ نماز میں دعائے قنوت وہ  
 دعا ہے جو کھڑے ہو کر مانگی جاتی ہے، ورنہ عام طور پر دعائیں قعدہ میں تشہد اور درود  
 شریف کے بعد بیٹھ کر ہی مانگی جاتی ہیں۔

(۴) الصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ : ”راست باز اور راست گو مرد اور راست بازو

راست گو عورتیں۔ ”جو بات کے بھی سچے ہوں اور عمل کے لحاظ سے بھی سچے ہوں۔

(۵) الصَّبِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ : ”صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔“ صبر کا مفہوم بہت جامع ہے۔ صبر معصیت پر بھی ہے کہ گناہ سے خود کو روکا جائے۔ صبر اطاعت پر بھی ہے کہ جو حکم بھی ملے اسے بجالایا جائے۔ مثلاً چاہے شدید سردی ہے اور گرم پانی میسر نہیں ہے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھی جائے۔ اس لئے کہ نماز فرض ہے اور اس کے لئے وضو شرط ہے۔ پھر یہ کہ اسلام پر چلنے میں جو تکالیف اور مشکلات پیش آئیں انہیں برداشت کرنا بھی صبر ہے۔

(۶) الخُشِيِّينَ وَالخُشِيَّاتِ : ”عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں۔“ یعنی اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کرنے والے اور اس کے آگے جھک جانے والے مرد اور عورتیں۔ ”خشوع“ جھکاؤ یا فرمانبرداری کی کیفیت کو کہتے ہیں۔

(۷) الْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ : ”صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں۔“ یعنی جو اللہ کی رضا جوئی کے لئے اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ صدقہ و خیرات میں زکوٰۃ بھی شامل ہے جو ہر صاحب نصاب پر فرض ہے اور دیگر نقلی صدقات بھی ا

(۸) الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ : ”روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔“ نوٹ کیجئے کہ ان صفات میں ایمان کے علاوہ نماز، روزہ اور زکوٰۃ جیسے ارکان اسلام بھی آگئے ہیں۔

(۹) الْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ : ”اپنی شرمگاہوں (اور عصمت و عفت) کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔“ عفت و عصمت کی حفاظت مرد اور عورت دونوں کے لئے ضروری ہے اور اس ضمن میں

اسلام دونوں پر یکساں پابندیاں عائد کرتا ہے۔

(۱۰) الذَّاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَالذَّاكِرَاتِ : ”اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور (اللہ کا کثرت سے) ذکر کرنے والی عورتیں۔“

اگلی آیت میں آخری بات دو ٹوک انداز میں بیان فرمادی گئی جو اس پہلی منزل کا خلاصہ اور لُبِ لباب ہے :

﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِيْنًا ﴾

”اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول (ان کے بارے میں) کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر بھی ان کے پاس اس بات میں کوئی اختیار باقی رہ جائے۔ اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“

یعنی مسلمان اور مومن مردوں اور عورتوں کا طرز عمل تو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم یا فیصلہ آگیا تو اب ان کے اپنے انتخاب یا اختیار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور اگر کوئی اس کے برعکس رویہ اختیار کرتا ہے تو یہی معصیت اور نافرمانی ہے اور حقیقت کے اعتبار سے کفر ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی نافرمانی کی روش اختیار کریں گے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، تو وہ پھر بڑی صریح گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ گویا کہ اسلام، اطاعت اور عبادت کا لُبِ لباب ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے سرتسلیم خم کر دینا، اطاعت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری، عبادت کیا ہے؟ ہمہ تن اور ہمہ وقت اللہ ہی کا بندہ بن جانا، ان تمام چیزوں میں کانٹے کی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آگیا وہاں ہمارا اختیار ختم ہاں اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم موجود نہیں تو گویا

کہ اللہ نے ہمیں یہ اختیار دے دیا ہے کہ یہاں ہم اپنی مرضی، فہم، ذوق اور مزاج کے مطابق معاملہ طے کر لیں۔ لیکن جہاں دو ٹوک حکم آپکا ہو (إِذَا قَضَيْتَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا) پھر بھی انسان یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی اختیار یا Option ہے تو یہ گویا کہ اسلام اور ایمان کے منافی بات ہو گی۔

یہ پہلی منزل ہے، جہاں پر دینی ذمہ داریوں کے اعتبار سے مرد و عورت میں بہت معمولی فرق ہے۔ لیکن جیسے جیسے ہم اوپر چلتے جائیں گے، یہ فرق بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی منزل پر یہ فرق بہت تھوڑا ہے، دوسری منزل پر بہت نمایاں ہے، جبکہ تیسری منزل پر جا کر یہ فرق بہت بڑھ جائے گا۔ ہمیں اس فرق کی اساس کو سمجھ لینا چاہئے۔ اسلام شرم و حیا اور عصمت و عفت کی انتہائی اہمیت بیان کرتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے میں ان چیزوں کی خوب حفاظت ہو۔ یہی وہ اصول اور مقصد ہے جس کے تحت سترو حجاب اور لباس کے احکام دیئے گئے اور اس معاملے میں مرد و عورت کے مابین فرق رکھا گیا۔ حجاب اور پردے کے احکامات خالص عورتوں کے لئے ہیں اور ان میں بھی محرم اور نامحرم کا فرق روا رکھا گیا ہے۔ سورہ نور میں اس ضمن میں ایک طویل آیت وارد ہوئی ہے۔ بہر حال یہ ایک مکمل مضمون ہے جس پر میری ایک کتاب ”اسلام میں عورت کا مقام“ کے عنوان سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر مولانا مودودیؒ کی کتاب ”پردہ“ بڑی معرکہ الآراء کتاب ہے۔ اسی طرح مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی کتاب ”پاکستانی عورت دور اسے پر“ بھی ایک عمدہ کتاب ہے۔ اس وقت سترو حجاب کی بنیاد پر اس فرق و تفاوت کو واضح کرنا مقصود ہے کہ دینی فرائض کی اوپر کی جو دو منزلیں ہیں، ان میں مرد و عورت کے مابین جو فرق و تفاوت ہے وہ اصلاً اسی بنیاد پر ہے کہ معاشرے میں شرم و حیا کا ماحول برقرار رہے، اور عصمت و عفت اور پاک دامنی کی پوری پوری حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔

پہلی منزل پر بھی جو فرق ہے وہ اسی بنیاد پر ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ مردوں

اور عورتوں کے مابین بلا ضرورت کوئی اختلاط یا آپس میں ملنا جلنا ہو۔ چنانچہ اسلام دونوں کے علیحدہ علیحدہ دائرہ کار قائم کرتا ہے اور دونوں کی ذمہ داریاں اور فرائض کا علیحدہ علیحدہ تعین کرتا ہے۔ نماز کے ضمن میں آخر یہ فرق کیوں کیا گیا کہ مردوں کی نماز گھر کی نسبت مسجد میں افضل ہے، جبکہ عورت کی نماز گھر کے اندر اور گھر کی بھی اندرونی کونٹھڑی میں زیادہ افضل ہے اور مسجد میں ان کی آمد پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ اس میں اختلاط کا ایک امکان پیدا ہوتا ہے۔ راستہ چلتے، مسجد کو آتے جاتے مردوں سے مڈ بھیز ہو سکتی ہے۔ مسجد کے اندر بھی خواہ کتنا ہی اہتمام کر لیا جائے مگر اس کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی بے جا بی کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے یا کسی نامحرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ انہی احتمالات کی وجہ سے پہلی منزل پر بھی باریک سافرق واقع ہو گیا، جو میں بیان کر چکا ہوں۔

## (ii) دوسری منزل : دعوت و تبلیغ کے تین دائرے

یہ فرق جب آگے بڑھے گا تو بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گا۔ مثلاً دوسری منزل پر دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔۔۔ اس کے ضمن میں ہمارے دین نے جو عام ترتیب سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ ”الاقرب فالأقرب“ کے اصول پر اصلاح کا کام پہلے اپنے آپ سے شروع کیا جائے، پھر گھر والوں کی اصلاح کی فکر کی جائے اور اس کے بعد دوسرے لوگوں پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص سات سمندر پار جا کر تبلیغ کر رہا ہو جبکہ اس کے اپنے گھر میں دین کا معاملہ تسلی بخش نہ ہو تو یہ درحقیقت غلط ترتیب ہے، جس کی وجہ سے وہ برکات ظاہر نہیں ہوتیں جو نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تبلیغ سے ظاہر ہوئیں۔

اب اس ترتیب کو سامنے رکھیں تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خواتین کے لئے دعوت، تبلیغ، نصیحت اور اصلاح کا اولین دائرہ ان کا اپنا گھر ہے۔ ان کے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت اور اصلاح کلیۃً ان کی ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر خواتین

کا حلقہ اور اس سے مزید آگے محرم مردوں کا حلقہ آئے گا۔ بس ان تین حلقوں میں خواتین کو دعوت و تبلیغ کے فرائض سرانجام دینے ہیں۔ سب سے پہلے حلقے کے بارے میں سورۃ التحریم میں ”قُواْ نَفْسَكُمْ وَاَهْلِيكُمْ نَارًا“ کے الفاظ آئے ہیں۔ یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھروالوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ! اس ضمن میں رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بھی پیش نظر رہنی چاہئے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر (رضی اللہ عنہما) کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
 ”تم میں سے ہر شخص گلہ بان ہے اور تم میں سے ہر شخص اپنے گلے کے بارے میں جوابدہ ہے۔“

یعنی جس طرح ہر چرواہے کی ذمہ داری میں کچھ بھیڑ بکریوں پر مشتمل ایک گلہ ہوتا ہے اور وہ چرواہا گھر سے اس گلے کو لے جانے اور بحفاظت واپس لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح ہر شخص کی حیثیت ایک گلے بان کی سی ہے اور جو کچھ اس کے چارج میں ہے، وہ اس کے بارے میں مسئول اور ذمہ دار ہے۔ چنانچہ آنحضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ  
 ”اور آدمی اپنے گھروالوں پر نگران ہے، اور وہ اپنی اس رعیت کے بارے میں جوابدہ ہے۔“

یعنی اس سے اللہ کے ہاں یہ پوچھا جائے گا کہ اس پر اس کے گھروالوں کی اصلاح و تربیت اور دوسرے حقوق کی ادائیگی کی جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی وہ اس نے کس حد تک ادا کی۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا:

وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا  
 ”اور عورت اپنے شوہر کے گھر پر نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔“

اور ظاہر بات ہے کہ اس کی رعیت میں اس کی اولاد اس کا صدق اول ہے۔ اور ایک روایت میں تو الفاظ ہی یہ آئے ہیں :

وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِمِ  
مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ

”اور عورت اپنے شوہر کے اہل خانہ اور اس کی اولاد پر نگران ہے اور وہ

ان کے بارے میں جوابدہ ہے۔“

یعنی اس کے دیگر افراد خانہ اور باندیاں اور غلام وغیرہ بھی اس کی نگرانی اور ذمہ داری میں ہوں گے، نگر اصل ذمہ داری اولاد کی ہے۔ (یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے اور ذرا سے لفظی اختلاف کے ساتھ اسے مسلم، ترمذی اور ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔)

یہ معاملہ واقعتاً نہایت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم غور کریں تو کسی بھی قوم کا مستقبل اس کی آئندہ نسل سے وابستہ ہے اور آئندہ نسل کا سارا بوجھ اللہ تعالیٰ نے عورت پر ڈالا ہے۔ اس کی پیدائش کے علاوہ اس کی پرورش کا بھی اصل بوجھ عورت ہی پر ہے۔ وہی تو ہے کہ جو بچوں کی پرورش کی خاطر سب سے بڑھ کر اپنی نیندیں حرام کرتی ہے اور اپنے آرام کی قربانی دیتی ہے۔ پھر ان کی تعلیم کی اولین ذمہ داری بھی اسی پر عائد ہوتی ہے۔ بچے کی سب سے پہلی تعلیم گاہ درحقیقت ماں کی گود ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال مسلمان ماں کے بارے میں کہتے ہیں :

عز آسیا گرداں و لب قرآن سرا

اور یہ نقشہ ہم نے بچپن میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خواتین بچے کو دودھ پلاتے ہوئے قرآن بھی پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی چکی بھی چلا رہی ہیں۔ اور بچے کو گود میں لے کر ماں جب قرآن پڑھتی ہے تو بچہ اسے سنتا ہے۔ یہ چیزیں غیر محسوس طریقے سے منتقل ہوتی ہیں۔ آخر ہمیں یہ تعلیم دینی گئی ہے کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں اقامت کہی جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو لازماً ہوتا

ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی حکم دیا گیا ہو اور اس کی کوئی افادیت یا علت نہ ہو۔ بچہ بے شعور سہی، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ٹیپ ریکارڈر میں چلنے والی کیسٹ بھی بے شعور ہوتی ہے لیکن جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کے اثرات اس پر ثبت ہو جاتے ہیں اگرچہ وہ نظر نہیں آتے۔ اور جب آپ ٹیپ چلاتے ہیں تو وہ آواز برآمد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بچے کے تحت الشعور کے اندر بھی کوئی ٹیپ ہو، جس پر اذان اور اقامت کی آواز اپنے اثرات مرتب کرتی ہو۔ اسی طرح اگر ایک ماں اپنے بچے کو گود میں لئے بیٹھی ہو، اس کے ہاتھ چکی چلا رہے ہوں اور ہونٹ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں تو ممکن نہیں کہ اس قرآن کے اثرات بچے کی شخصیت پر نہ پڑیں۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا ہے :

عطر کہ در آغوش شہیرے گیری

کہ ایسی خواتین کی گود کے اندر حضرت حسینؑ اور حضرت حسنؑ جیسے پھول کلیں گے۔ اسی لئے کہا گیا ہے کہ : **اَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ اِلَى الْمَحْدِ** ”علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک“۔ ”مہد“ ماں کی گود کو کہتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ بچے کی تعلیم کا نقطہ آغاز یہی ہے۔ تو خواتین کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی اولاد کی تربیت ہے۔ اور ان کی سب سے کڑی مسئولیت اولاد ہی کے بارے میں ہوگی۔ لہذا اس اہم ذمہ داری کی قیمت (Cost) پر، یعنی اس کو نظر انداز کرتے ہوئے یا اس میں کوتاہی کرتے ہوئے کوئی اور کام کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے کہ اولاد کی ذمہ داریوں سے عمدہ برآ ہونے کے بعد بھی وقت بچ رہا ہو تو پھر انہیں مزید محنت کرنا چاہئے۔ خاص طور پر جوان خواتین، جن کے بچے ابھی چھوٹے ہوں اور اولاد کی پیدائش کا سلسلہ ابھی جاری ہو، آج کے دور میں ان کی ذمہ داریاں اتنی کٹھن ہیں کہ انہیں پورا کرنے کے بعد بہت کم وقت بچتا ہے۔ لیکن جو بھی وقت بچے وہ اسے صرف کریں، اپنے آرام کی قربانی دیں اور دوسرے قریبی حلقوں میں دعوت کا کام کریں، جیسا کہ میں بعد میں عرض کروں گا۔

لیکن اس کی خاطر اولاد کو نظر انداز کرنا قطعاً جائز نہیں۔

ہمارے ہاں جو یہ ہو رہا ہے کہ سات سمندر پار تبلیغ ہو رہی ہے اور اپنے گھر والوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو یہ اس قسم کا طرز عمل ہے جس کے بارے میں سورۃ البقرہ کے پانچویں رکوع میں آیا ہے : **اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ** ”کیا تم لوگوں کو نیکی تعلیم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟“۔ اپنی اولاد کی طرف سے عدم توجہی اور لاپرواہی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح طور پر نہیں ہو پاتی اور لامحالہ ماحول کے اثرات ان پر مرتب ہو کر رہتے ہیں اور ان کی ذہنیت و خیالات معاشرے کے رنگ سے لازماً متاثر ہوتے ہیں۔ اور آج کا بچہ تو الحاد، کفر، بے حیائی اور عریانی، ان سب عفریتوں کی زد میں ہے۔ ٹی وی اس کے سامنے ہے، اخبارات اس کے ارد گرد ہیں اور وہ ان کی یلغار کی زد میں ہے۔ جس طرح امریکہ نے عراق پر وحیانیہ انداز میں بمباری کی ہے، اسی طرح ہمارے بچے الحاد اور بے حیائی کی بمباری کی زد میں ہیں۔ اب اگر ان کی ذمہ داریوں سے اعراض کیا جائے اور گھروں سے باہر نکل کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیا جا رہا ہو، تو یہ ترتیب کو الٹا کر دینے والی بات ہے۔

جہاں تک دوسرے دائرے یعنی گھر سے باہر نکل کر دوسری خواتین میں دعوت و تبلیغ اور درس و تدریس کا تعلق ہے تو میرے خیال میں اس کے لئے منظم کوشش وقت کی اہم ضرورت ہے۔ البتہ اس کے لئے ایسی خواتین کو زیادہ فعال ہونا چاہئے جو ادھیڑ عمر کی ہیں اور ان کے لئے حجاب کے احکامات میں بھی وہ شدت نہیں ہے۔ بڑی عمر کی خواتین کے لئے سورۃ النور میں فرمایا گیا : **لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ نِيَابِهِنَّ**۔ کہ ان پر کوئی حرج نہیں اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ بھی دیا کریں یعنی ستر کی شدت تو برقرار رہے گی مگر پردے اور حجاب کے ضمن میں ان پر اب وہ شدید پابندیاں نہیں ہیں جو ایک نوجوان عورت پر ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عملاً جو صورت حال ہے، وہ ایک برعکس نقطہ نظر کی غمازی کرتی ہے۔

ہو تا یہ ہے کہ جو خواتین شروع ہی سے گھر میں رہنے کی عادی ہوتی ہیں اور حکیم قرآنی "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ" (اپنے گھروں میں قرار پکڑو!) پر عامل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بجا طور پر پردے کی بھی خوگر ہوتی ہیں تو ایسی خواتین خواہ بڑھاپے کی سرحد پر پہنچ چکی ہوں، ان کی ایک طبیعتِ ثانیہ بن جاتی ہے کہ پھر ان کی طبیعت کہیں بھی نکلنے پر آمادہ نہیں ہوتی، چاہے شریعت کی طرف سے اب پابندیاں ہلکی ہو رہی ہیں۔ یہ اس تصویر کا بالکل دوسرا رخ ہے۔ میرے نزدیک اس معاملے میں حساسیت کو کم کر دینا چاہئے اور ایسی خواتین کے پاس اگر وقت فارغ ہو تو انہیں دین کے کاموں میں زیادہ ہچکچانا نہیں چاہئے۔ طویل سفر کے لئے تو ظاہر ہے کہ محرم کا ساتھ ہونا ضروری ہے، مگر شہروں کے اندر اگر خواتین کے اپنے حلقوں میں درس و تدریس کے لئے نقل و حرکت ہو رہی ہو، تو انہیں اپنی تمام احتیاطات کے ساتھ ان دینی امور میں ضرور حصہ لینا چاہئے۔ جہاں تک جو ان لڑکیوں کا تعلق ہے، ان کے لئے اس میں بھی بڑے خطرات ہیں۔ میرے نزدیک اس معاشرے میں ان کا اکیلے باہر نکلنا سرے سے جائز نہیں۔ بنا بریں وہ خواتین جن پر اولاد وغیرہ کی ذمہ داریاں نہ ہوں، یا اس ضمن میں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس وقت فارغ ہو تو وہ ستر و حجاب کی پوری پابندی کرتے ہوئے ان سرگرمیوں میں حصہ لے سکتی ہیں، بشرطیکہ جب باہر نکلیں تو محرم ساتھ ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم جس معاشرتی طوفان سے دوچار ہیں، اس میں جب تک کوئی منظم کوشش نہیں ہوگی، اثرات کا نکلنا اور ظاہر ہونا بعید از قیاس ہے۔ چنانچہ مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ خواتین اگر اپنا حلقہ منظم کریں، ان کے اپنے اجتماعات اور کلاسز کا نظام قائم ہو، جن میں تعلیم و تعلیم قرآن اور عربی زبان کی درس و تدریس کے علاوہ دعوت و تبلیغ اور تذکیر و تلقین کا اہتمام ہو تو یہ یقیناً مطلوب ہے۔

خواتین کی تعلیمی و تربیتی اور دعوتی و تبلیغی سرگرمیوں کا تیسرا حلقہ ان کے محرم مردوں پر مشتمل ہے۔ یعنی ان کے بھائی، والد، چچا، ماموں اور بھتیجے، بھانجے وغیرہ۔

یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ شوہر کے بھتیجے، بھانجے، محرم نہیں، نامحرم ہیں۔ عورت کا محرم وہ ہے جس سے اس کی شادی کبھی بھی نہ ہو سکتی، جبکہ شوہر کی وفات کے بعد شوہر کے بھتیجے یا بھانجے سے نکاح ہو سکتا ہے، لہذا وہ نامحرم ہیں۔ تو محرم مردوں میں دعوت و اصلاح کا کام بھی ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ ایسا کثرت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری جو پچھلی نسل ہے، اس پر مغرب کے اثرات زیادہ ہیں۔ اب جبکہ دینی جماعتوں اور تحریکوں کے ذریعے دین کا چرچا متوسط طبقے میں بڑھ گیا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ نوجوان لڑکوں کے چروں پر تو داڑھیاں ہیں، لیکن ان کے والد اور دادا کلین شیو نظر آتے ہیں۔ یہ الٹی لنگا اس لئے ہم رہی ہے کہ اس نوجوان نسل پر تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور دیگر دینی تحریکوں کے اثرات پڑے ہیں، جبکہ پچھلی نسل ان اثرات سے عاری ہے۔ اسی طرح اب نوجوان نسل کے اندر ایسی لڑکیوں کی تعداد زیادہ نظر آتی ہے جو ستر و حجاب کی پابندی کرنا چاہتی ہیں، لیکن ان کے والدین کے ہاں یہ تصور نہیں ہے۔ تو ان کے لئے اپنے والد، بھائیوں اور دیگر محرموں کو تبلیغ کرنا اور ان کو صحیح راستے کی طرف بلانا مقدم ہے۔ عورتوں کے لئے یہ دعوت و تبلیغ کا تیسرا میدان ہے۔

بعض دینی حلقوں کے ذریعہ اثر خواتین ایکشن کے دنوں میں کنوینٹ کے لئے گھر گھر جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کے پیش نظریہ ہو کہ اسلام ایکشن کے ذریعے سے غالب ہوگا، تو اسے اس کے لئے وسیع پیمانے پر رابطہ کرنے کے لئے گھر گھر جانا ہوگا۔ چنانچہ نوجوان لڑکیاں اور خواتین گھر گھر جا کر دونوں کے لئے رابطہ کرتی ہیں۔ اگرچہ وہ یہ کام پردے کے ساتھ کرتی ہیں، جو اپنی جگہ قابل تعریف بات ہے، لیکن نوجوان بچیوں کا اس طرح اجنبی گھروں میں جانا بڑی نامناسب بات ہے، کیونکہ ہمارا دین خواتین کو اجنبی عورتوں کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرتا ہے۔ مسلمان خواتین کے لئے اجنبی عورتیں بھی محرم نہیں ہیں۔ کیونکہ سورۃ النور میں محرموں کی جو فہرست آئی ہے اس میں "وَنِسَائِهِنَّ" بھی فرمایا گیا ہے۔ یعنی اپنی عورتیں، جانی

پہچانی عورتیں، معروف عورتیں، جن کے کردار کے بارے میں معلوم ہے کہ شریف خواتین ہیں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی عورت جو گھر میں چلی آ رہی ہو کسی بُری نیت سے آ رہی ہو۔ تو اسلام کی رُو سے اجنبی عورتوں کو اپنے گھروں میں بھی اس طرح بے محابہ داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی، کجا یہ کہ مسلمان نوجوان لڑکیاں ہر طرح کے گھروں میں جائیں۔ اس میں یقیناً بہت سے فتنے اور خطرات موجود ہیں۔ بہر حال اس حلقے کے پیش نظر چونکہ انتخابی طریق کار ہی ہے تو شاید انہوں نے اس کے لئے اس طرح سے گھر گھر رابطہ ناگزیر سمجھ لیا ہو، مگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی اس معاشرے کے اندر بہت بڑی ذہنی، فکری اور اخلاقی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ایک ”حزب اللہ“ کو وجود میں لانے کے لئے ابھی بڑی محنت کی ضرورت ہے۔ اور اس کے لئے میں نے مسلمان خواتین کے تین دائرہ ہائے کار بتا دیئے ہیں۔ اگر کبھی ہنگامی حالات پیدا ہو جائیں تو ان میں یقیناً احکام کچھ مختلف ہو سکتے ہیں، اور میں ابھی اس کے بارے میں بھی عرض کروں گا، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں دعوت و تبلیغ کے ضمن میں ایک مسلمان خاتون کے لئے یہی تین دائرے ہیں۔

### (iii) تیسری منزل: اقامتِ دین کی جدوجہد اور خواتین

اب آئیے تیسری منزل کی طرف۔ یہ اقامتِ دین، اسلامی انقلاب یا تکبیر رب کی منزل ہے۔ اس سطح پر ایک ایسی منظم جماعت کی تشکیل ناگزیر ہے جس کی نیشیت ایک بنیادِ مرموص کی ہو اور جو باطل نظام کی تبدیلی کے لئے نہ صرف یہ کہ ایک عوامی تحریک برپا کر سکے، بلکہ قتال فی سبیل اللہ کے کٹھن اور جاں نسیں مراحل سے گزرنے کا حوصلہ بھی رکھتی ہو۔ لیکن یہ وہ ذمہ داری ہے جس سے انتہائی ناگزیر حالات اور ہنگامی صورت حال کے سوا اللہ نے خواتین کو بری کیا ہے۔ اس ضمن میں بعض خواتین و حضرات کو شاید مغالطہ ہو جاتا ہے۔ ان کا استدلال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خواتین نے بھی ہجرت کی ہے، اور اس راہ میں خواتین کی گردنیں بھی

کئی ہیں۔ مثلاً حضرت 'مییہ' نے اپنے شوہر حضرت یاسرؓ کے ساتھ جان قربان کی ہے اور حضرت رقیہؓ نے اپنے شوہر حضرت عثمانؓ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ تو چونکہ جان کا نذرانہ دینا اور ہجرت کرنا صحابیاتؓ سے ثابت ہے، لہذا خواتین کو بھی اللہ کی راہ میں سرکھن کھٹانا چاہئے۔ اس استدلال میں جو مغالطہ ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اصل میں ان خواتین صحابیات رضی اللہ عنہن کی ہجرت اور شہادت کی نوعیت پہلی منزل ہی کے تہہ کی تھی۔ کیونکہ اگر ایمان پر گردن کھتی ہو، جو اسلام کی پوری عمارت کی جڑ اور بنیاد ہے تو مسلمان خاتون بھی مسلمان مرد کی طرح اپنی گردن کٹوائے گی اور یہاں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ حضرت 'مییہ' نے توحید کی بنیاد پر جان دی۔ ابو جہل دباؤ ڈال رہا تھا کہ توحید سے برگشتہ ہو جاؤ اور شرک کی روش اختیار کرو، میرے معبود کی بھی کچھ نہ کچھ الوہیت تسلیم کرو۔ حضرت 'مییہ' اور ان کے شوہر حضرت یاسر (رضی اللہ عنہما) نے اس سے انکار کیا اور دونوں شہید کر دیئے گئے۔ لیکن یہ بجائے خود "قتال فی سبیل اللہ" اور میدان میں آکر باطل سے پنجہ آزمائی کا مرحلہ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ایمان پر ثابت قدم رہتے ہوئے ہر جبر و تشدد کو برداشت کیا، حتیٰ کہ اپنی جان قربان کر دی۔ اور آج بھی اگر کسی مؤمنہ مسلمہ خاتون کے لئے ایسی صورت حال پیدا ہو جائے کہ اسے کفر اختیار کرنے یا جان کا نذرانہ دینے میں سے ایک بات کا انتخاب کرنا پڑے تو اس کے لئے عزیمت کی راہ یہی ہے کہ وہ کفر اختیار کرنے کی بجائے اپنی جان قربان کر دے، اگرچہ اسلام نے رخصت کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر دل میں کفر کا شائبہ پیدا نہ ہو تو کلمہ کفر کہہ کر جان بچائی جاسکتی ہے۔ چنانچہ حضرت 'مییہ' اور حضرت یاسرؓ کے صاحبزادے عمارؓ نے ہی کیا تھا کہ وقتی طور پر کلمہ کفر کہہ کر جان بچالی۔ اور یہ واقعتاً بڑی عجیب بات ہے کہ بوڑھے والدین نے عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے جان دے دی اور کلمہ کفر ادا نہیں کیا۔ اور یہ عزیمت بالکل مختلف چیز ہے۔ یہ جماد و قتال میں گردن کٹوانا نہیں ہے، بلکہ ایمان پر قائم رہنے کے لئے جان کی بازی لگانا ہے۔

اسی طرح ہجرت کا معاملہ ہے کہ جہاں دین پر قائم رہنا ممکن نہ رہے وہاں سے ہجرت کر جانا مسلمان مرد و عورت دونوں کے لئے لازم ہے۔ چنانچہ حضرت رقیہؓ، حضرت اُمّ حبیبہؓ اور دیگر خواتین نے اپنے محرموں کے ساتھ ہجرت کی، کیونکہ مکہ میں رہتے ہوئے ان کے لئے توحید پر قائم رہنا ناممکن ہو گیا تھا۔ بہر حال یہ وہ باتیں ہیں جو مسلمان مرد و عورت دونوں کے لئے ضروری ہیں اور اس سلسلے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئی ہے :

﴿فَاسْتَحَابَ لَهُمْ رَيْثُهمْ اِنِّى لَا اِضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى، بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاٰخِرُ حُوْرٍ مِّنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْدُوْا فِى سَبِيْلِى وُقَاتِلُوْا وَقَاتِلُوْا وَقَاتِلُوْا لَا يَكْفُرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخِلْنَهُمْ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ﴾

ان تمام افعال میں مرد و خواتین برابر کی شریک ہیں۔ مردوں کی طرح خواتین کو بھی اللہ کے راستے میں ایذا میں پہنچائی گئیں، انہیں ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے ہجرت بھی کی اور توحید پر قائم رہنے کے لئے اپنی گردنیں بھی کٹوائیں۔۔۔۔۔ لیکن دوسری طرف محمدؐ رسول اللہ ﷺ اور آپؐ کے صحابہ کرام اللہ علیہم السلام نے عرب میں جو انقلابی تحریک برپا کی اور جس طرح جماد و قتال کے مراحل طے کئے اس میں خواتین کہیں شریک نظر نہیں آتیں۔ اس ضمن میں میں نے جو چند باتیں نوٹ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔

حضور ﷺ نے ہجرت کے فوراً بعد جو آٹھ مہینے بھیجی ہیں، ان میں کسی خاتون کا کوئی تذکرہ تک موجود نہیں۔ اللہ کی راہ میں سب سے پہلی باقاعدہ جنگ غزوہ بدر رہے، جسے قرآن ”یوم الفرقان“ سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کی تمام تفصیل کتب حدیث و سیرت میں موجود ہیں۔ اس میں کسی خاتون کی شرکت کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اب ہمیں یہیں سے تو سمجھنا ہے کہ دین کا مزاج کیا ہے اور دین کی طرف سے

عائد کردہ ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دین کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جمادو قتال کے ضمن میں خواتین کی کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوتیں جو حضورؐ ہمیں نہ بتاتے؟ معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ! آپؐ اگر ایسا کرتے تو اللہ کے ہاں آپؐ کی بہت سخت مسئولیت ہو جاتی۔ تو ہمیں یہ معروضی طور پر (Objectively) سمجھنا ہے کہ خواتین کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نہ کہ خود اپنی طرف سے کچھ اضافی ذمہ داریاں عائد کرنا ہیں۔ صرف غزوہٴ اُحد میں خواتین کی میدان جنگ میں موجودگی کا ذکر ملتا ہے جبکہ انتہائی ایمر جنسی کی کیفیت پیدا ہو چکی تھی۔ مدینہ منورہ میں ستر صحابہ کرامؓ کی شہادت کی اطلاع پہنچی تھی اور اس کے ساتھ یہ خبر بھی اڑ گئی تھی کہ رسول اللہ ﷺ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ اس پر پورے مدینے کے اندر ایک کھرام مچ گیا تھا۔ یہ معرکہ مدینے سے ڈھائی تین میل کے فاصلے پر ہو رہا تھا۔ چنانچہ کچھ خواتین والمانہ انداز میں دامن اُحد کی طرف دوڑیں اور انہوں نے زخمیوں کو پانی بھی پلایا اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ بھی کی۔ یہ ایک بالکل ہنگامی صورت حال اور استثنائی کیفیت تھی۔ اس طرح کی استثنائی ہنگامی صورت حال اب بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ لاہور پر حملہ ہو جائے اور یہاں پر گھر گھر مورچے لگا کر جنگ کرنی پڑے تو ظاہرات ہے کہ خواتین بھی شریک ہو جائیں گی اور وہ اس ملک کے تحفظ اور دفاع کے لئے اپنے مردوں کا ساتھ دیں گی۔ تو غزوہٴ اُحد کے بارے میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ وہاں ایک انتہائی ہنگامی صورت حال پیدا ہو گئی تھی جس کی بنا پر خواتین کو اس میں شریک ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ غزوہٴ اُحد تک ابھی حجاب کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد غزوہٴ احزاب میں جو شدید ترین آزمائش کا مرحلہ تھا اور جس کے بارے میں قرآن مجید میں ”وَزُلْزِلُوا زُلُزَالًا شَدِيدًا“ (”اور بڑی شدت سے ہلا ڈالے گئے“) کے الفاظ وارد ہوئے ہیں کوئی خاتون محاذ جنگ پر نہیں آئیں۔ بلکہ وہاں خواتین کو ایک بڑی حویلی کے اندر جمع کر دیا گیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک یہودی مشتبہ حالت میں ادھر آ رہا تھا تو حضرت صفیہ

رضی اللہ عنہا نے خیمے کی چوب نکال کر اسے ضرب لگا کر مار دیا۔ یاد رہے کہ حجاب کا حکم اولاً سورۃ الاحزاب میں آیا ہے جو غزوہ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے، جبکہ سورۃ النور مزید ایک سال بعد ۶ھ میں نازل ہوئی۔

۷ھ میں غزوہ خیبر پیش آیا۔ اس غزوہ سے متعلق یہ واقعہ کتب حدیث میں موجود ہے، جس سے غزوہ خیبر میں خواتین کے کردار پر روشنی پڑتی ہے۔ اس واقعے کو امام احمدؒ نے اپنی مسند اور امام ابو داؤدؒ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔

”حشر بن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر آنحضور ﷺ کے ساتھ پانچ خواتین کے ہمراہ باہر نکلیں، جن میں جمعی وہ خود تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب حضورؐ کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہوئی تو آپؐ نے ہمیں بلوایا۔ جب ہم حاضر ہوئیں تو آپؐ کو غضبناک پایا۔ آپؐ نے پوچھا: تم کس کے ساتھ نکلی ہو اور کس کی اجازت سے نکلی ہو؟ ہم نے عرض کیا: ہم اون کاتیں گی اور کچھ اللہ کی راہ میں کام کریں گی۔ ہمارے پاس کچھ مرہم بنی کا سامان بھی ہے۔ ہم (مجاہدین کو) حیر پکڑا دیں گی، انہیں ستو گھول کر پلا دیں گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اٹھو، واپس چلی جاؤ، پھر جب اللہ نے خیبر فتح کر دیا تو حضور اکرم ﷺ نے (مالِ غنیمت میں سے) ہمارے لئے بھی مردوں کی طرح حصہ نکالا۔ حشر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا: دادی جان! (مالِ غنیمت میں سے) کیا چیز ملی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا: کچھ کھجوریں!“

اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ان خواتین سے یہ استفسار کہ تم کس کے ساتھ نکلی ہو اور کس کی اجازت سے نکلی ہو، بہت اہم ہے۔ اس سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ کوئی خاتون اگر کہیں باہر نکلتی ہے تو سب سے پہلے اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے ساتھ محرم ہے یا نہیں؟ سیرت کا یہ اہم واقعہ ہماری خواتین کو پیش نظر رکھنا چاہئے۔

مزید بر آں ”الاستیعاب“ میں منقول حضرت اسماء بنت یزید (رضی اللہ عنہا) کا واقعہ بھی اس ضمن میں بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں بہت سی خواتین میں جب دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی حدود سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ اور یہ خواتین خود دین کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کی رعایت نہ رکھتے ہوئے اپنی گھریلو ذمہ داریوں میں کوتاہی کرتے ہوئے، اور بچوں کی پرورش کے فریضے کو پامال کرتے ہوئے دین کا کام کرنا چاہتی ہیں۔ ایسی خواتین کے لئے سیرت کا یہ واقعہ نہایت فیصلہ کن اور سبق آموز ہے۔ حضرت اسماءؓ بنت یزید ایک انصاریہ خاتون ہیں اور یہ مشہور صحابی حضرت معاذ بن جبلؓ کی پھوپھی زاد بہن ہیں، جن کے متعلق حضورؐ نے فرمایا تھا:

”أَعْلَمْتُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ“ — ان کے متعلق روایت ہے کہ وہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ وہ سب کی سب وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرتی ہوں اور سب وہی رائے رکھتی ہیں جو میں آپؐ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ عرض یہ ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم آپؐ پر ایمان لائیں اور ہم نے آپؐ کی پیروی کی۔ لیکن ہم عورتوں کا حال یہ ہے کہ ہم مردوں کے اندر رہنے والیاں اور گھروں کے اندر بیٹھنے والیاں ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے اپنی خواہش پوری کر لیں اور ہم ان کے بچے لادے لادے پھرں۔ مرد جمعہ و جماعت، جنازہ و جہاد ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ جب جہاد پر جاتے ہیں تو ہم ان کے گھریاں کی حفاظت کرتی ہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں۔ تو کیا اجر میں بھی ہم کو ان کے ساتھ حصہ ملے گا؟ آنحضرتؐ نے ان کی یہ فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہؓ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: کیا آپ لوگوں نے اس سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے، جس نے اپنے دین کی بابت سوال کیا ہو؟ تمام صحابہؓ نے قسم کھا کر اقرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! اس کے بعد آنحضرتؐ حضرت

اسماءؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا : اے اسماء! میری مدد کرو اور جن عورتوں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ان تک میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر ہے جو تم نے بیان کئے ہیں۔ حضرت اسماء رسول اللہ ﷺ کی یہ بات سن کر خوش خوش اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس لوٹ گئیں اور انہوں نے اس پر کسی انقباض کا اظہار نہیں کیا۔

اس واقعے میں ہماری خواتین کے لئے یہ سبق ہے کہ ہماری محنت و کوشش کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہاں اپنی ذمہ داریوں سے بری الذمہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ایک ذمہ داری ذالی ہی نہیں تو خواہ مخواہ اپنے اوپر اس ذمہ داری کا بوجھ لا دینا اپنی جان پر ظلم کے مترادف ہے اور یہ ایسا طرز عمل ہے جس کے جواب میں اللہ کی طرف سے ”نُؤَلِّهِمْ مَسْئَلَتِي“ والا معاملہ پیش آ سکتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کسی ایسی ذمہ داری کو اختیار کر لے جو اس پر عائد نہیں کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اس ذمہ داری کے حوالے کر دیتا ہے اور پھر اس میں اللہ کی مدد نصرت اور تائید شامل حال نہیں ہوتی۔ اور آدمی اگر حد سے تجاوز کر جائے تو اندیشہ ہے کہ ”وَنُصَلِّهِمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا“ کے الفاظ کے مطابق جنت کی طرف جانے کے بجائے جہنم کی طرف پیش قدمی ہو جائے۔ لہذا اس طرز عمل سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فریضہ اقامت دین اور اعلائے کلمتہ اللہ کی جدوجہد مردوں پر فرض کی ہے اور عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری براہ راست عائد نہیں کی۔ البتہ خواتین سے مطلوب یہ ہے کہ وہ اس جدوجہد میں اپنے مردوں کی تمہین و مددگار ہوں۔ بچوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور مردوں پر اس کا زیادہ بوجھ نہ پڑنے دیں۔ وہ مردوں کے لئے اس راہ میں زیادہ سے زیادہ وقت فارغ کرنا ممکن بنائیں۔ ان پر اپنی فرمائشوں کا بوجھ اس طرح نہ لادیں کہ وہ انہی مسائل میں الجھ کر رہ جائیں اور دین کی سربلندی کے لئے جہد و کوشش نہ

کر سکیں۔ خواتین اگر ان امور کو مد نظر رکھتے ہوئے شوہروں سے تعاون کریں تو یہ ان کی طرف سے اقامتِ دین کی جدوجہد میں شرکت کا بدل بن جائے گا اور ان کے لئے اجر کثیر اور ثوابِ عظیم کا باعث ہو گا۔ اور خواتین کے لئے اس سے بڑھ کر خوش آئند بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں گھر بیٹھے بٹھائے مردوں کے برابر اجر و ثواب مل جائے ۱۱

## مردوں اور خواتین کی بیعت کا فرق

مردوں اور عورتوں کے دینی فرائض کے ضمن میں ایک اہم فرق بیعت کا ہے۔ آپ کے علم میں ہو گا کہ آنحضرت ﷺ نے اقامتِ دین کے لئے ہجرت سے متعلقاً قبلِ سح و طاعت کی جو بیعت لی وہ صرف مردوں سے لی، جو بہت سخت بیعت ہے۔ یہ ”بیعت عقبہ ثانیہ“ کہلاتی ہے جس میں ہر حال میں امیر کے حکم کی پابندی کا عہد ہے، جسے ”فی الْمُسْرِ وَالْمُسْرِ وَالْمُنْشِطِ وَالْمَكْرَهِ“ کے الفاظ سے واضح کیا گیا ہے۔ یعنی خواہ تنگی ہو، خواہ آسانی، اور خواہ طبیعت اس کے لئے آمادہ ہو، خواہ طبیعت پر جبر کرنا پڑے۔ پھر اس میں درجہ بدرجہ تمام امراء کے حکم کی پابندی کرنا بھی شامل ہے۔ یہ چیزیں واقعتاً بہت سخت اور نفس پر بڑی شاق گزرنے والی ہیں، لیکن وہ مظالمِ جماعت جسے اسلامی انقلاب کے لئے جدوجہد کرنا ہو اور جماد و قتال کے مراحل سے گزرنا ہو، وہ ان کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں اصل زور لفظِ جماعت پر ہے اور اس کے ضمن میں ”سح و طاعت“ کی مثبت تاکید کے ساتھ ساتھ منفی انداز میں ان تمام رخنوں کا سدباب بھی کر دیا گیا ہے جو نفسیاتی یا ”نفسانی“ وجوہات کی بنا پر پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک خواتین کی بیعت کا تعلق ہے تو اگرچہ بیعت عقبہ ثانیہ کے ضمن میں تو نہ صراحتاً یہ مذکور ہے کہ وہ اس بیعت میں شریک نہیں تھیں، نہ ہی یہ کہ ان سے کوئی جداگانہ بیعت لی گئی ہو (حالانکہ اس

موقع پر دو خواتین کی موجودگی قطعی طور پر ثابت ہے!) البتہ قرآن و سنت میں خواتین کی جو بیعت مذکور ہے وہ دراصل نیکی اور تقویٰ کی بیعت ہے، جو کفر و شرک، برائیوں، حرام کاموں، جھوٹ، چوری، زنا اور تہمت و بہتان طرازی کے ساتھ ساتھ آنحضور ﷺ کی نافرمانی سے ”اجتناب“ کے عہد پر مشتمل ہے۔ اور اس کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ”بیعت عقبہ ثانیہ“ سے ایک سال قبل منعقد ہونے والی ”بیعت عقبہ اولیٰ“ کے ضمن میں وارد ہوئے ہیں جو یثرب کے بارہ مسلمان مردوں سے لی گئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ”جماعتی نظم“ کی پابندی کے معاملے میں مردوں اور عورتوں کی ذمہ داری یکساں اور برابر نہیں ہے۔ اور اس کا براہ راست تعلق ہے اس حقیقت سے کہ فرائض دینی کی تیسری اور بلند ترین منزل یعنی اقامتِ دین اور اعلاء کلمتہ اللہ کی جدوجہد میں خواتین کی ذمہ داری براہ راست نہیں، بالواسطہ ہے! ( واضح رہے کہ ہمارے یہاں صوفیاء کے حلقوں میں جو ”بیعت ارشاد“ رائج ہے وہ بھی دراصل اسی ”بیعت عقبہ اولیٰ“ یا ”بیعت النساء“ سے مشابہ ہے اور اس کا سبب بھی یہی ہے کہ ان کے یہاں بالعموم اقامتِ دین کی فرضیت کا تصور موجود نہیں ہے!)

### جماعتی زندگی - دونوں کے لئے ضروری!

اس سب کے باوجود جہاں تک ایک جماعتی زندگی کا تعلق ہے، اس کے بارے میں میرا احساس یہ ہے کہ جس طرح یہ مردوں کے لئے ضروری ہے اسی طرح خواتین کے لئے بھی ضروری ہے۔ اس لئے کہ جماعتی زندگی میں ایک برکت ہے۔ اس سے نیکی و بھلائی کا ماحول پیدا ہوتا ہے اور دوسرے ساتھیوں کو اچھے کاموں اور نیکیوں میں آگے بڑھتے دیکھ کر اپنا حوصلہ بھی بڑھتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کسی رفیق یا رفیقہ نے اپنے گھر میں ہونے والے کسی غلط کام کو ترک کر دیا ہے یا ترک کروا دیا ہے تو آپ میں بھی ایسا کرنے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ

جماعتی زندگی کی برکتوں اور فوائد سے عورتوں کو بھی محروم نہیں رکھا گیا۔ اس کے لئے سورۃ التوبہ کی آیت اے کا مطالعہ کیجئے۔ فرمایا :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ  
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 〇﴾

”مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔  
وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا  
کرتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ ہیں کہ  
جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت  
والا ہے۔“

اور یہ جماعتی ماحول کی برکات ہی کا منظر ہے کہ حضور ﷺ نے خواتین سے بھی  
بیعت لی۔ نتیجتاً خواتین میں بھی یہ احساس پیدا ہو گیا کہ ہم ایک اجتماعیت میں شریک  
ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ربط و تعلق ہے، ہمیں ان کے احکامات سن کر ان پر عمل  
کرنا ہے، نیکی کے کام بجالانے ہیں، کیونکہ ہم نے قول و قرار کیا ہے۔ اس سے خود  
احسابی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر ہم یہ کام نہیں کر رہے تو گویا اپنے عہد کی  
خلاف ورزی کر رہے ہیں۔

چنانچہ ہم نے بھی تنظیم اسلامی میں خواتین کا ایک حلقہ رکھا ہے اور ہمارے ہاں  
ان کی بیعت کا سلسلہ بھی موجود ہے۔ ہماری تمام تر خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ  
ہم تمام معاملات میں کتاب و سنت سے اور اسوۂ رسول ﷺ کی عملی مثالوں سے  
حتی الامکان قریب ترین رہنے کی کوشش کریں۔ جس طرح حضورؐ نے حضرت معاذ  
بن جبلؓ سے ایک مرتبہ فرمایا تھا: ”میرے قریب آ جاؤ۔“ پھر فرمایا: ”میرے  
اور قریب آ جاؤ“ تو اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ حضورؐ کا جو طریقہ واسوہ

تھا اس سے قریب سے قریب تر رہنے کی امکانی کوشش جاری رکھیں۔ لہذا ہم نے اقامتِ دین اور اسلامی انقلاب کی جدوجہد کے لئے جو تنظیم اسلامی قائم کی ہے اس میں جہاں تک منکرات سے اجتناب اور اقامتِ دین اور اعلیٰ کلمتہ اللہ کے لئے جہاد و انفاق کے ضمن میں سورہ توبہ کی آیت ۱۱۱ کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ”بیع“ کا معاملہ ہے اس میں تو مردوں اور عورتوں سب کو شامل کیا گیا ہے، البتہ ”سمع و طاعت فی المعروف“ کے نظم کی پوری شدت کے ساتھ پابندی کی ”بیعت“ جس کے الفاظ متفق علیہ حدیث سے ماخوذ ہیں، صرف مردوں کے لئے رکھی گئی ہے، جبکہ خواتین کے لئے بیعت کے وہی الفاظ اختیار کئے گئے ہیں جو سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر ۱۲ میں وارد ہوئے اور جن میں نبی اکرم ﷺ کی اطاعت کا ذکر اولاً تو ”سمع و طاعت“ کے مثبت اسلوب میں نہیں بلکہ صرف اس منفی انداز میں ہے کہ ”آپ“ کی نافرمانی نہیں کریں گی“ اور ثانیاً، یہاں خود نبی کی اطاعت کے ضمن میں بھی ”معروف“ کی قید کا اضافہ غمازی کر رہا ہے کہ جس قسم کا چاق و چوبند نظم مردوں سے مطلوب ہے خواتین کا معاملہ اس درجہ کا نہیں۔ البتہ خواتین کی تنظیم میں شمولیت اور بیعت اس لئے ضروری ہے کہ اس سے ان میں ایک تنظیم اور اجتماعیت کا شعور اور مسئولیت و ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو فی نفسہ مطلوب ہے، تاہم جیسا کہ میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اقامتِ دین کی جدوجہد میں ان کی ذمہ داریاں مردوں کی ذمہ داریوں سے ہمت مختلف ہیں اور فرائضِ دینی کی اس تیسری بلند ترین منزل پر ان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، وہ بالواسطہ ہیں۔ وہ اگر اس سطح کی جدوجہد میں اپنے آپ پر خواہ مخواہ ایسی ذمہ داریاں عائد کر لیتی ہیں جن کا اللہ نے انہیں ملکیت نہیں ٹھہرایا تو اس سے اندیشہ ہے کہ بجائے خیر کے کوئی شریدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرز عمل سے محفوظ رکھے اور ان ذمہ داریوں کو مکاحقہ ادا کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے جو اس نے ہم پر عائد کی ہیں!

# اسلام میں عورت کا مقام

مشمول ہر

(۱) بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد

کا ایک فکر انگیز خطاب

(۲) اسلام اور عورت

از: شیخ جمیل الرحمن مرحوم

(۳) عورت: اقبال کے کلام میں

از: مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

(۴) ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا انٹرویو

شائع شدہ: ماہنامہ آنچل کراچی

(۵) اسلامی معاشرے میں خواتین کا کردار

جنگ فورم میں محترم ڈاکٹر اسرار احمد کی گفتگو کا خلاصہ

شائع شدہ: روزنامہ جنگ جمعہ ایڈیشن

☆ کمپوزنگ پوزنگ ☆ سفید کاغذ ☆ عمدہ طباعت ☆ صفحات: 152 ☆ قیمت: 60 روپے

شائع کردہ: مکتبہ خدام القرآن لاہور

36- کے ماڈل ٹاؤن لاہور، فون: 03-5869501، فیکس: 5834000